

Visit of External Affairs Minister to New York for Chairing Signature Events of India's December Presidency of the UN Security Council (December 13- 15, 2022)

December 12, 2022

دسمبر (دسمبر 13-15، 2022) میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی علامتی تقریبات کی صدارت
کے لیے وزیر خارجہ کا نیویارک کا دورہ
دسمبر 12، 2022

14 اور 15 دسمبر 2022 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی جاری صدارت کے دوران دو اعلیٰ
سطحی وزارتی علامتی پروگراموں کی صدارت کے لیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جئے شنکر نیویارک کا دورہ
کریں گے۔

2- 14 دسمبر کو "اصلاح شدہ کثیر الجہتی کے نئے رجحانات" کے موضوع پر وزارتی سطح پر اعلیٰ سطحی
مذاکرہ اور 15 دسمبر کو "انسداد دہشت گردی کے لیے عالمی نقطہ نظر - چینجز اور مستقبل کا لائحہ عمل"
کے موضوع پر اعلیٰ سطحی بریفنگ طے کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی موجودہ میعاد کے
دوران ہندوستان کے لیے یہ دونوں موضوع کلیدی ترجیحات میں شامل ہیں۔

3- اصلاح شدہ کثیر الجہتی پر کھلی بحث کا بنیادی مقصد تمام ارکان ممالک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دیرینہ اصلاحات سمیت عالمی گورننس کے کثیر جہتی تشکیل میں
اصلاحاتی تقاضوں کو سنجیدگی سے حل کرنے پر آمادہ ہوسکیں۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سکرٹری جنرل
اور اقوام متحدہ کی 77 ویں جنرل اسمبلی کے صدر کی بریفنگ بھی ہوگی۔

4- اس کے علاوہ، انسداد دہشت گردی پر اعلیٰ سطحی بریفنگ ہوگی تاکہ انسداد دہشت گردی کے عالمی ڈھانچے
کے وسیع اصولوں پر کونسل کے اراکین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور 28-30
اکتوبر کو ممبئی اور نئی دہلی میں انسداد دہشت گردی کمیٹی کے منعقدہ خصوصی اجلاس کے دوران منظور
کردہ دہلی اعلامیے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔

5- دورے کے دوران وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے احاطہ میں مہاتما گاندھی کے مجسمہ کی نقاب
کشائی کریں گے۔ یہ مجسمہ ہندوستان کی طرف سے اقوام متحدہ کو ایک تحفہ ہے، اور یہ مہاتما گاندھی کا
پہلا مجسمہ ہے جسے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نصب کیا جائے گا۔

6- وزیر خارجہ "امن محافظوں کے خلاف جرائم کے احتساب کے لیے دوستوں کا گروپ" کا افتتاح بھی کریں
گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگست 2021 میں ہندوستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت
کے دوران اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ افواج کے خلاف جرائم کے احتساب کو یقینی بنانے کی قرارداد متفقہ
طور پر منظور کی گئی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ، "امن کیپرز کے خلاف جرائم کے احتساب کے لیے

دوستوں کے گروپ" میں بنگلہ دیش، مصر، فرانس، مراکش اور نیپال جیسے فوجی تعاون کنندگان ممالک اس کے شریک چیئرمین ہوں گے۔

7- توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر سے بات چیت بھی کریں گے ساتھ ہی ہندوستانی صدارت کی اعلیٰ سطحی علامتی تقریبات میں شرکت کرنے والے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی ملاقات بھی کریں گے۔ "ملت 2023 کا بین الاقوامی سال" پر ہندوستان کی پہل کے تعلق سے ایک خصوصی فوٹو نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہندوستان وزارت خارجہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور یو این ایس سی کے رکن ممالک کے لیے ملت پر مبنی ظہرانے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔

نئی دہلی

دسمبر 12، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.